



سوال

(43) جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا جاننا ہر مسلمان شخص پر ضروری ہے تاکہ وہ ان سے اجتناب کرے۔ وہ اشیاء درج ذیل ہیں:

جماع کرنا

اگر روزے کے دوران اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دن کی قضا دینا پڑتی ہے جس دن جماع کیا گیا علاوہ ازیں اس گناہ کا اس پر کفارہ بھی ہے کہ وہ ایک گردن (غلام یا لونڈی) آزاد کرے۔ اگر یہ کام نہ کر سکے تو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے تو ساٹھ مساکین کو مناسب (علاقے میں رائج) کھانا کھلانے یا ہر مساکین کو نصف صاع (ایک کھو 50 گرام) کھانا دے۔

منیٰ کا اخراج

بوسہ لینے چھونے بار بار دیکھنے یا مشت زنی کے سبب اگر منیٰ خارج ہو گئی تو اس کا روزہ ضائع اور باطل ہو جائے گا جس روز اس نے یہ کام کیا اس سن کی قضا دے گا البتہ اس پر کفارہ نہیں کیونکہ کفارہ جماع کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ [1]

اگر نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا تو اس کے ذمے نہ قضا ہے اور نہ کفارہ کیونکہ اس میں اس کا اختیار شامل نہ تھا البتہ اس پر غسل کرنا فرض ہے۔

قصداً کھانا پینا

قصداً یعنی ارادہ کر کے کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:



وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْمُنَ الْكَيْسُ مِنَ الْأَيْسِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ حَتَّى أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْبُطْرِ ... ۱۸۷ ... سورة البقرة

"تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔" [2]

البتہ اگر کسی شخص نے بھول کر کچھ کھاپی لیا تو اس کا روزہ متاثر نہ ہوگا حدیث شریف میں ہے۔

"مَنْ شَرِبَ وَبَوَّسَ قَاعًا أَوْ شَرِبَ قَيْحَمَ صَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَفْطَرَ اللَّهُ وَسَقَاهُ"

"جس کسی نے بھول کر کچھ کھاپی لیا تو وہ اپنا روزہ (جاری رکھ کر) مکمل کرے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔" [3]

ناک کے ذیلیے سے پیٹ میں پانی وغیرہ پہنچانے (سحوط) سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے رگ کے ذیلیے سے پیٹ میں غذا پہنچانے (ڈرپ لگوانے) سے یا جسم میں خون پہنچانے سے بھی روزہ فاسد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غذا کے لیے ٹیکہ بھی روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ بیماری وغیرہ کے لیے ٹیکہ لگوانے سے اجتناب کرنا بہتر ہے تاکہ روزہ شک و شبہ سے بھی محفوظ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

"دع ما يريك ابي، ما يريك"

"جس میں تجھے تردو اور شک ہو اسے چھوڑ کر وہ صورت اختیار کر جس میں تجھے تردو اور شک نہ ہو۔" [4]

سینگلی لگوانا اور فصد کروانا

سینگلی لگوانے فصد کروانے یا کسی مریض کو دینے کے لیے خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ اگر تجزیہ یا تجربہ کے لیے تھوڑا سا خون نکالا گیا تو روزے پر اس کا اثر نہ ہوگا اور روزہ قائم رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی ایسی صورت میں بدن سے خون نکل آیا جس سے روزے دار کا اپنا اختیار نہیں بلکہ وہ مجبور ہے تو اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا مثلاً: نکسیر کا پھوٹنا کسی زخم سے کون کا نکل آنا یا دانت نکلوانے سے خون کا نکلنا وغیرہ۔

قے آنا:

اگر قصد اور ارادۃ قے لانے کی صورت پیدا کی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ اگر خود بخود قے آگئی تو روزہ قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

"مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَيْ: غَلَبَ، فَغَيْسَ عَلَيْهِ قَيْءًا، وَمَنْ اسْتَقْرَأَ غَدَاً فَغَضَّ"

"جسے خود بخود قے آگئی اس پر روزے کی قضا نہیں اور جس نے قصد قے کی تو وہ قضا دے۔" [5]

روزے دار کو روزے کی حفاظت کرتے ہوئے سرمہ ڈالنے اور آنکھوں میں دوائی کے قطرے وغیرہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ [6]

وضو کرتے ہوئے کلی کرتے یا ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغہ نہ کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

"وَبَاغِيَ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَّا أَنْ نَعُونَ صَابِغًا"

"(وضو کرتے وقت) ناک میں پانی خوب چڑھاؤ مگر جب تم روزے کی حالت میں ہو (تو ایسا مت کرو۔" [7]

اس کی وجہ یہ ہے کہ ناک کے ذیلیے سے پانی پیٹ تک پہنچ جاتا ہے۔

دن کے شروع یا آخر میں مسواک کرنے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا بلکہ روزے دار کے لیے مسواک کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔

اگر گردوغبار یا مکھی وغیرہ اڑ کر حلق تک پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

روزے دار کو جھوٹ، غیبت، جھٹی، گالی گلوچ سے بہر صورت بچنا چاہیے۔ اگر اس سے کوئی شخص گالی گلوچ کرے تب بھی وہ (دو مرتبہ) کہہ دے (انی صائم) میں نے روزہ رکھا ہوا

ہے۔ [8]

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھانا پینا چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے لیکن ان کے لیے جن برے نئے اور غلیظ اقوال و افعال کے وہ عادی ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بنا بریں بعض سلف صالحین کا قول ہے: "آسان ترین روزہ کھانے پینے کا چھوڑ دینا ہے۔"

ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے۔ اپنے رب کی عظمت و بزرگی کا خیال رکھے اور یہ ایمان و یقین رکھے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں اپنے مالک کی نگاہ میں ہے نیز روزے کو فاسد اور ضائع کرنے والی اور اس کے ثواب میں کمی کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرے تاکہ اس کا روزہ صحیح اور مقبول ہو۔

روزے دار کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت میں خود کو مشغول رکھے۔ کثرت سے نوافل پڑھے سلف صالحین کا یہ انداز تھا کہ جب وہ روزہ رکھتے تو زیادہ سے زیادہ وقت مساجد میں گزارتے اور کہتے اب ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے اور کسی کی غیبت نہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"مَنْ لَمْ يَزِدْ قَوْلَ التَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ بِقَوْلِ عَائِشَةَ أَنْ يَزِدَ طَاعَتَهُ وَشَرَابَهُ"

"جس روزے دار نے حالت روزہ میں جھوٹی باتیں کرنی اور ان پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی سروکار نہیں۔" [9]

اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں جائز خواہشات کو چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب اس وقت ہوتا ہے جب انسان ان چیزوں کو چھوڑتا ہے جو اس کے رب نے ہر حال میں حرام کی ہیں مثلاً: جھوٹ، ظلم اور لوگوں کے خون مال اور عزت میں ظلم و زیادتی کرنا وغیرہ۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الصَّائِمُ فِي عِبَادَتِهِ لَمْ يَخْتَبِ مُسْلِمًا أَوْ كُفْرًا"

"روزہ دار حالت عبادت میں ہوتا ہے جب تک وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا یا اسے تکلیف نہیں دیتا۔" [10]

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"إِصَامٌ مِنْ عَمَلٍ بِكُلِّ يَوْمٍ لِلنَّاسِ"



"اس نے روزہ نہیں رکھا جو (غیبت کر کے) لوگوں کا گوشت کھاتا ہے۔" [11]

لہذا جب روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ان اشیاء سے اجتناب کرے جو روزہ نہ رکھنے کی حالت میں جائز ہیں (مثلاً: کھانا پینا، جماع کرنا) جو اشیاء ہر حال میں حرام ہیں انہیں ترک کرنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے تاکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہو جو روزے کا پورا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔

روزے کی قضا کے احکام

جس شخص نے شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا یا توڑ دیا یا کسی حرام کام مثلاً: جماع وغیرہ کے ارتکاب سے روزہ فاسد اور ضائع کر لیا تو اس پر قضا لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَهَذِهِ مِنْ أَيَّامِ أُخْرٍ ۱۸۵ ... سورة البقرة

"اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔" [12]

قضا کی ادائیگی میں جلدی کرنا مستحب ہے تاکہ ذمے داری ختم ہو جائے نیز قضا میں تسلسل قائم کرنا مستحب ہے کیونکہ قضا ادا کے مطابق ہوتی ہے قضا کو فوراً ادا کرے نہیں کر سکا تو آئندہ ادا کرنے کا عزم باجزم ہونا چاہیے اگر پھر بھی کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ روزے کی ادائیگی کے وقت میں خاصی وسعت ہے جب واجب کی ادائیگی کے وقت میں وسعت و گنجائش ہو تو اس میں عزم کے باوجود تاخیر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اس کی قضا متفرق طور پر دینا بھی جائز ہے البتہ اگر کسی نے سارا سال روزوں کی قضا نہ دی حتیٰ کہ ماہ شعبان کے صرف اس قدر دن رگمگے جس قدر اس پر قضا کے روزے تھے تو اب چونکہ وقت نہایت تنگ ہے اس لیے اب تسلسل سے قضا دینا اس پر بالاتفاق لازم ہے۔ دوسرے رمضان کے بعد قضا جائز نہیں الا یہ کہ کوئی خاص شرعی عذر ہو۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے :

"كان يحون على الصوم من رمضان، فما استطاع أن يقضه إلا في شعبان"

"میرے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں شعبان سے پہلے قضا نہیں دے سکتی تھی۔" [13]

صحیح مسلم کی روایت میں راوی کے وضاحتی الفاظ ہیں :

"وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم"

"اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتا تھا۔" [14]

اس روایت سے ثابت ہو کہ روزے کی قضا میں وقت کی خاصی وسعت ہے۔ آئندہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے قضا دی جاسکتی ہے۔

اگر قضا میں اس قدر تاخیر ہو گئی کہ اگلا ماہ رمضان بھی شروع ہو گیا تو وہ شخص موجودہ رمضان کے روزے رکھے جبکہ گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے بعد میں رکھے۔ اگر یہ تاخیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے ہوئی ہے تو صرف روزوں کی قضا دے اور اگر کوئی شرعی عذر نہ تھا تو وہ قضا بھی دے اور بطور کفارہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا

کھلائے۔ [15]



اگر کسی شخص کے ذمے رمضان کے روزوں کی قضا تھی لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا تو اس کے ذمے کچھ نہیں کیونکہ جس وقت وہ فوت ہوا اس وقت قضا میں تاخیر جائز تھی۔ اگر وہ رمضان جدید کے بعد فوت ہو گیا تو اگر قضا کی تاخیر کا سبب کوئی شرعی عذر (مرض یا سفر) تھا تو اس کے ذمے بھی کوئی روزہ نہیں اور اگر بغیر عذر کے رمضان جدید آ گیا تو اس کے ترکہ سے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بطور کفارہ لازم ہے۔

اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے ذمے کسی کفارے کے روزے تھے مثلاً: ظہار کے کفارہ کے واجب روزے تھے یا حج تمتع میں قربانی نہ کرنے کی وجہ سے روزے واجب تھے تو میت کی طرف سے روزے نہ رکھے جائیں بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے جو اس کے ترکہ سے ادا ہو کیونکہ یہ ایسے روزے تھے جن کی زندگی میں نیابت نہیں ہو سکتی تھی لہذا موت کے بعد بھی نیابت درست نہیں یہ قول اکثر اہل علم کا ہے۔

اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے نذر کے روزے تھے تو مستحب یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے:

أما امرأة ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت: یا رسول اللہ انی ماتت وعلیما صوم نذر، فأصوم عنها؟ قال: أرأیت لو کان علیک دین فقضیتہ، اکان یؤدی ذک عننا؟ قالت: نعم. قال: فصومی عنک.

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا: میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمے نذر کے روزے تھے تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کر دیتی تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ تو اس عورت نے کہا: ہاں! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ۔" [16]

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "میت کی طرف سے نذر کے روزے رکھے جائیں۔ اصلی فرض روزے نہ رکھے جائیں یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی منقول ہے علاوہ ازیں دلیل و قیاس بھی اس کا مقتضی ہے کیونکہ شریعت کے کسی حکم سے نذر واجب نہ تھی بلکہ بندے نے خود ہی اپنے آپ پر ضروری قرار دے لی جو فرض کا درجہ پا گئی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے فرض قرار دیا ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے۔ اس میں کسی حال میں بھی نیابت کا دخل نہیں جس طرح کلمہ شہادت اور نماز میں نیابت درست نہیں بلکہ ان سے مقصود بندے کا خود اطاعت کرنا اور وہ حق عبادت ادا کرنا ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا اور اس کا حکم دیا ہے لہذا اسے کسی دوسرے کی طرف سے نہ ادا کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کی طرف سے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔"

شیخ السلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے یہ امام احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے اور یہی درست ہے نذر کا ذمہ اس نے خود اٹھایا ہے لہذا موت کے بعد اسے ولی ادا کرے البتہ رمضان المبارک کے روزے عاجز اور معذور شخص پر فرض نہیں بلکہ عاجز کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے باقی رہی روزوں کی قضا تو وہ صرف قدرت والے شخص پر ہے عاجز پر نہیں اس لیے عاجز کی موت کے بعد ولی پر قضا بھی نہیں ہاں نذر وغیرہ کے روزے احادیث صحیحہ کی روشنی میں بالاتفاق میت کی طرف سے رکھے جائیں۔"

بڑھاپے اور بیماری میں روزے کے احکام

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں جو حضرات معذور نہیں وہ انہیں وقت پر ادا کریں معذور افراد قضا دیں بشرطیکہ دوسرے دنوں میں قضا کی طاقت رکھتے ہوں یہاں ایک تیسری قسم کے افراد بھی ہیں جو ادا کی طاقت رکھتے ہیں نہ قضا کی۔ اس قسم میں وہ شخص داخل ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو یا وہ مریض جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف فرمائی ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ... سورة البقرة ۲۸۶

"اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔" [17]

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ... سورة البقرة ۱۸۴

"اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دس۔" [18]

سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے : "اس آیت کا حکم اس بوڑھے مرد اور عورت کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔" [19]

لیکن جس نے کسی عارضی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا جیسے مسافر یا وہ مریض جس کے تندرست ہونے کی کوئی امید ہو یا حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت جسے اپنے وجود یا اپنے بچے کی کمزوری کا خوف ہو یا حیض و نفاس والی عورت ہوان تمام پر روزے کی قضا لازم ہے۔ جس قدر ان کے روزے چھوٹ جائیں گے اسی قدر دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر قضا دیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... سورة البقرة ۱۸۵

"ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔" [20]

وہ مریض جسے روزہ رکھنے سے تکلیف ہو یا وہ مسافر جس سفر میں اس کے لیے قصر کرنا جائز ہو ان کا روزہ چھوڑنا مسنون عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انھی کے حق میں فرمایا ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... سورة البقرة ۱۸۴

"ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔" [21]

یعنی وہ روزہ چھوڑ دے اور جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کی گنتی کے برابر بعد میں روزے رکھ لے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يُرِيدُ اللَّهُ يَتُخَّذُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ الْعُسْرَ ... سورة البقرة ۱۸۵

"اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں۔" [22]

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام اختیار کرتے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے :

"ليس من البر الصيام في السفر"

"سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں۔" [23]



اگر مسافر یا مریض جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوئے روزہ رکھا لیا تو کراہت کے باوجود ان کا روزہ درست ہوگا البتہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔
بچے کو دودھ پلانے والی اور حاملہ بتنے روزے پھوڑے گی دوسرے دنوں میں ان کی قضا دے جس نے بچے کی پرورش کے پیش نظر روزے پھوڑ دیے تو وہ روزوں کی قضا کے ساتھ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کے کھانے کا کفارہ بھی دے۔ [24]

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا فتویٰ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی دونوں عورتیں اپنے بچوں کے بارے میں اگر کوئی خطرہ محسوس کریں تو وہ روزے پھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں ان کا کھانا کھانا روزوں کی ادا کے طور پر ہوگا نیز ان پر پھوٹ جانے والے روزوں کی قضا بھی لازم ہے۔ [25]

کسی شخص کو بلاکت اور موت سے بچانے کی خاطر روزہ توڑا جاسکتا ہے مثلاً: اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے تو اس کو بچانے کی خاطر نہر دریا وغیرہ میں کود جانا۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "روزہ پھوڑنے کے چار اسباب ہیں۔ (1) سفر (2) مرض (3) حیض (4) روزہ رکھنے سے کسی کی بلاکت کا خوف ہو جیسے دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت یا غرق ہونے والے کو بچانا۔"

مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ فرض روزے کی نیت رات ہی کو کرے مثلاً: رمضان المبارک کا روزہ کفارے کا روزہ نذر کا روزہ وغیرہ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ کرے کہ وہ صبح رمضان کا یا اس کی قضا کا روزہ رکھے گا یا صبح کو نذر یا کفارے کا روزہ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ بِمَا نَوَىٰ"

"اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلے گا۔" [26]

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"مَنْ لَمْ يَجْعَلِ النِّيَّاتِ لِكُلِّ فِعْلٍ أَحْرَجَهُ عَمَّا نَزَّ"

"جس شخص نے طلوع فجر سے پہلے پہلے رات کو روزہ رکھنے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔" [27]

اس روایت کی روشنی میں فرض روزے کی نیت رات کو کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دن چڑھے بیدار ہوا اور اس نے طلوع فجر کے بعد کچھ نہ کھایا یا پیا پھر اس نے روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہوگا البتہ نفل روزہ اس طرح رکھا جاسکتا ہے۔

نفلی روزے کی نیت دن کو ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ایک روز میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا:

"عَنْ عَائِشَةَ كَيْفَ نَوَىٰ؟" قَالَتْ: لَا قَالَ: «فَأَيُّ ذُنُوبِكُمْ»

"کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تب میرا روزہ ہے۔" [28]

اس روایت سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزے کی حالت میں نہ تھے تبھی تو کھانا طلب کیا اور اس حدیث میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ نفل روزے کی نیت میں صبح تک تاخیر کرنا جائز ہے اسی طرح یہ بھی واضح ہوا کہ عدم جواز کی روایات فرض روزے کے ساتھ خاص ہیں۔



نظلی روزے کی نیت دن کے وقت تب درست ہے جب نیت سے پہلے روزے کے منافی کام یعنی فخر ثانی کے بعد کچھ کھایا پیا وغیرہ ہو ورنہ روزہ نہ ہوگا۔

- [1] - دیکھیے المغنی والشرح الکبیر 3/49۔
- [2] - البقرة: 2/187۔
- [3] - صحیح البخاری الصوم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا حديث 1933 و صحیح مسلم الصيام باب اكل الناسي و شره و جماعه لا يفطر حديث 1155۔
- [4] - صحیح البخاری البیوع باب تفسير المشبهات قبل حديث 2052 - معلقاً و جامع الترمذی صفة القيامة باب حديث اعقلها و توكل حديث 2518۔
- [5] - سنن ابی داؤد الصيام باب الصائم يستقئ عاده حديث 2380 - و جامع الترمذی الصوم باب ما جاء فيمن استقئ عدا حديث 720 - واللفظ له۔
- [6] - مصنف نے اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی جبکہ صحیح ہی ہے کہ سرمد دوائی ڈالنا جائز ہے۔ (صارم)
- [7] - سنن ابی داؤد الطهارة باب في الاستسقاء حديث 142 و جامع الترمذی الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغه الاستسقاء للصائم حديث 788۔
- [8] - صحیح البخاری الصوم باب فضل الصوم حديث 1894۔
- [9] - صحیح البخاری الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم حديث 1903۔
- [10] - (ضعيف) مسند الفردوس للديلمي 2/411 حديث و ضعيف الجامع الصغير وزيادة حديث 3528۔
- [11] - (ضعيف) ضعيف الجامع الصغير وزيادة حديث 5083 - والسلسلة الضعيفة حديث 4451۔
- [12] - البقرة: 2/184۔
- [13] - صحیح البخاری الصوم باب منى يقضى قضاء رمضان حديث 1950 و صحیح مسلم الصيام باب جواز تاخير قضاء رمضان لم يمسح رمضان اخر حديث 1146۔
- [14] - صحیح مسلم الصيام باب جواز تاخير قضاء رمضان حديث 1146۔
- [15] - المغنی والشرح الکبیر 4/85-86 - یہ مسئلہ بلاد لیل ہے قضا لازم ہے مزید بطور کفارہ مساکین کو کھانا دینا لازم نہیں دیکھئے اللباب 294 (ع۔ د)
- [16] - صحیح البخاری الصوم باب من مات وعليه صوم حديث 1953 - و صحیح مسلم الصيام باب قضاء الصوم عن الميت حديث 1148 - واللفظ له۔
- [17] - البقرة: 2/286۔
- [18] - البقرة: 2/184۔
- [19] - صحیح البخاری التفسير باب قوله تعالى (أَيَّامٌ مَعْدُودَاتٍ) حديث 4505۔



[20] - البقرة: 2/185-

[21] - البقرة: 2/185-

[22] - البقرة: 2/185-

[23] - صحیح البخاری الصوم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن نفل علیہ حدیث 1946 و صحیح مسلم الصیام باب جواز الصوم واللفظ فی شهر رمضان للمسافر حدیث 1115-

[24] - مؤلف کا یہ مسئلہ بلا دلیل ہے حاملہ اور مرضہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا دے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتی تو پھر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے دیکھیے اللباب ص (ع-د)

[25] - اعلام الموقعین: 3/190-

[26] - صحیح البخاری بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی حدیث 1- و صحیح مسلم الامارۃ باب قوله انما الاعمال بالنیہ

[27] - السنن الکبریٰ للبیہقی 4/203- و سنن النسائی الصیام ذکر اختلاف التقلین نجر حفصہ فی ذلک حدیث 2333 عن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا -

[28] - صحیح مسلم الصیام باب جواز صوم النافلة یمنہ من النہار قبل الزوال حدیث 1154-

حدامہ عمدی والنداء علم بالصواب

قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہی احکام و مسائل

روزوں کے مسائل: جلد 01: صفحہ 322